



## **SECP registered 329 companies in January 11 non-profit associations granted licenses in 2012's last quarter**

ISLAMABAD, February 7: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) registered 329 companies in January. The authorized capital and paid-up capital of these companies is Rs5 billion and Rs573 million respectively.

The new incorporations include 304 private companies, 16 single-member companies, 5 public unlisted companies, 2 non-profit associations and 2 foreign companies. Of the 2 foreign companies, one each belongs to the Cayman Islands and the U.S.

Foreign investment by nationals from Norway, Bangladesh and South Korea has been witnessed in 3 new local companies. These companies are from I.T., finance and banking and food and beverages sectors.

The trading sector has the largest share in the new incorporations with 47 companies, followed by tourism with 44 companies, services with 29, I.T. with 23, construction with 18, corporate agricultural farming with 14 and pharmaceutical with 13 companies.

The highest incorporation was witnessed at the Company Registration Office (CRO), Lahore, where 108 companies were registered. It is followed by the CROs in Karachi and Islamabad, registering 90 and 84 companies respectively. The Multan CRO registered 20 companies while CROs in Peshawar and Faisalabad registered 16 and 9 companies respectively. The Quetta and Sukkur CROs registered 1 company each.

During the month the returns for increase in the authorized capital of 114 companies were accepted, with the total authorized capital increment of Rs24.26 billion. In addition, 89 companies filed returns for increase in paid-up capital with the total enhancement amounting to Rs4.2 billion.

In addition, the SECP granted licenses to 11 non-profit associations under Section 42 of the 1984 Companies Ordinance, during the second quarter of FY-2012-13, raising the number of such licenses during the first half of the current financial year to 25.

Of the 11 licenses, 4 associations were granted licenses in the education sector, 2 for charity activities, while one each for services, dairy sector, rural development, social welfare and research and development.

**Imran Ghaznavi | Head, Media and Corporate Communications Department/Spokesperson**

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9206513 Fax # +92 51 9206515 Cell: +92 333-5116666

Email: [imran.ghaznavi@secp.gov.pk](mailto:imran.ghaznavi@secp.gov.pk)

[www.secp.gov.pk](http://www.secp.gov.pk)

**Tickers:**

1. SECP registered 329 companies in January
2. Company Registration Office Lahore registered 108 companies followed by Karachi with 90 and Islamabad with 84 companies
3. 47 companies have been registered in trading sector, 44 in tourism sector while 29 companies have been registered in the services sector
4. The authorized capital and paid-up capital of these companies is Rs5 billion and Rs573 million respectively
5. SECP granted 11 licenses to non-profit associations during the last quarter of 2012
6. Four licenses were granted in education sector while 2 were granted to undertake charitable and philanthropic activities while one each for services, dairy sector, rural development, social welfare and research and development.
7. At the close of second quarter, a total of 25 licenses had been issued during first half of financial year 2012-13

---

**Imran Ghaznavi | Head, Media and Corporate Communications Department/Spokesperson**

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9206513 Fax # +92 51 9206515 Cell: +92 333-5116666

Email: [imran.ghaznavi@secp.gov.pk](mailto:imran.ghaznavi@secp.gov.pk)

[www.secp.gov.pk](http://www.secp.gov.pk)



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

For Immediate Release

## PRESS RELEASE

**سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جنوری 2013 میں 329 نئی کمپنیاں رجسٹر کیں،  
رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں گیارہ نیا رجسٹرڈ کوالیفائیڈ لائسنس جاری کیے گئے**

اسلام آباد (7 فروری): سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جنوری 2013 میں 329 نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن کی۔ رجسٹرڈ ہونے والی کمپنیوں کا کل ادا شدہ سرمایہ 57 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے جبکہ کل بااختیار سرمائے کی حد پانچ ارب روپے ہے۔

ملک میں نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن کے رجحان میں کئی ماہ سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے، اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2012 میں بلترتیب 334، 332 اور 332 کمپنیاں رجسٹر کیں۔ جنوری 2013 میں رجسٹر ہونے والی کمپنیوں میں 304 پرائیویٹ کمپنیاں، 16 سنگل ممبر کمپنیاں، 02 غیر منافع بخش ایسوسی ایشنز اور 05 ٹرانسپیرینٹ پبلک کمپنیاں شامل ہیں۔ جنوری 2013 میں امریکہ اور کینیا کے اجزاء سے تعلق رکھنے والی دو غیر ملکی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں رجسٹریشن حاصل کی۔

جنوری میں سب سے زیادہ یعنی 47 کمپنیاں ٹریڈنگ کے شعبے میں رجسٹر ہوئیں، جبکہ 44 کمپنیوں نے سیاحت کے شعبے میں رجسٹریشن حاصل کی۔ خدمات کے شعبے میں 29، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 23 کنسٹرکشن کے شعبے میں 18، کارپوریٹ فارمنگ کے لیے 14 اور فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 13 کمپنیوں نے رجسٹر ہوئیں۔ سب سے زیادہ رجسٹریشن لاہور میں ہوئی جہاں سے اس مہینے 108 کمپنیوں نے رجسٹریشن حاصل کی۔

مزید ازاں، رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی (اکتوبر تا دسمبر 2012) میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے گیارہ غیر منافع بخش ایسوسی ایشنز کو بھی لائسنس جاری کیے۔ اس طرح رواں مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں (جولائی تا دسمبر 2012) میں لائسنس حاصل کرنے والی این این جی او کی کل تعداد پچیس ہو گئی ہے۔ یہ لائسنس کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیشن 42 کے تحت جاری کیے گئے۔ لائسنس حاصل کرنے والی ایسوسی ایشنز میں سے چار ایسوسی ایشنز نے تعلیم اور دو ایسوسی ایشنز عطیات و خیرات کے شعبے میں خدمات انجام دیں گئیں، جبکہ دہی ترقی، زراعت، فلاح و بہبود، خدمات اور ریسرچ کے شعبے میں کام کرنے کے لیے ایک ایک ایسوسی ایشن کو لائسنس جاری کیا گیا۔

تکملہ:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے جنوری 2013 میں 329 کمپنیاں رجسٹر کیں۔ ایس ای سی پی رجسٹرڈ ہونے والی کمپنیوں کا کل ادا شدہ سرمایہ 57 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے۔ ایس ای سی پی ٹریڈنگ کے شعبے میں 47، سیاحت کے شعبے میں 44، خدمات کے شعبے میں 29 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ ایس ای سی پی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 23 کنسٹرکشن کے شعبے میں 18، کارپوریٹ فارمنگ کے لیے 14 اور فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 13 کمپنیوں نے رجسٹریشن حاصل کی۔ ایس ای سی پی اکتوبر تا دسمبر 2012 میں گیارہ غیر منافع بخش ایسوسی ایشنز کو لائسنس جاری کیے گئے۔ ایس ای سی پی

**Imran Ghaznavi | Head, Media and Corporate Communications Department/Spokesperson**

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9206513 Fax # +92 51 9206515 Cell: +92 333-5116666

Email: imran.ghaznavi@secp.gov.pk

www.secp.gov.pk